

at the

Paragraph # 01:

Shahid Siddiqui

عبدالخالق اس کے بعد دو سال تک مقابلوں میں حصہ لیتا رہا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ (bizarre turn) آیا جب 1971 کی جنگ میں اسے جنگی قیدی (POW) بنا کر ایک جنگی کیمپ میں منتقل کر دیا گیا۔ سقوطِ مشرقی پاکستان اس کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ تھا جسے وہ آخری دم تک نہ بھلا سکا۔ وہ اپنے پیاروں سے ہزاروں میل دور بیٹھا تھا۔ وہ اڑنے والا پرندہ تھا جنگی کیمپ کی خار دار (barbed) دیواروں میں بند تھا۔ کیمپ میں رہنے والے قیدیوں کے رات دن بے یقینی سے گزر رہے تھے۔ کہتے ہیں وزیر اعظم اندرا گاندھی اسے رہا کرنے کو تیار تھی لیکن اس نے انکار کر دیا۔

Date: 18 / 8 / 2024

Areeha Hameed

MON TUE WED THS FRI SAT
○ ○ ○ ○ ○ ○

Translation

After that, Abdul Khalig ^{Kept} keeps taking part in competitions for two years. Then his life took a bizzare turn when in 1971's war, he ~~was~~ was made prisoner of war and shifted to a war camp. The disintegration of East Pakistan was such an incident of his life which was unforgettable for him till his last breath. He ^{was} is sitting ~~thousands~~ ^{loved ones} of miles away from his beloved ~~s~~. He was like a flying bird barbed behind the walls of war camp. The days and nights of those living in war camps were leading in uncertainty. It is said that, Prime minister Indira Gandhi was ready to release him but he refused.

need improvement
6/10